

(13)

Maulana Azad National Urdu University
B.Com III Semester Examination - December - 2018
BBCM302CCT - Income Tax - Law and Practice

پرچہ : انکم ٹیکس لائینڈ پریکٹس

Time : 3 hrs

Marks : 70

ہدایات:

یہ پرچہ سوالات تین حصوں پر مشتمل ہے: حصہ اول، حصہ دوم، حصہ سوم۔ ہر جواب کے لئے لفظوں کی تعداد اشارہ ہے۔ تمام حصوں سے سوالوں کا جواب دینا لازمی ہے۔

1. حصہ اول میں 10 لازمی سوالات ہیں جو کہ معروضی سوالات / خالی جگہ پُر کرنا / مختصر جواب والے سوالات ہیں۔ ہر سوال کا جواب لازمی ہے۔ ہر سوال کے لیے 1 نمبر مختص ہے۔
(10 x 1 = 10 Marks)
2. حصہ دوم میں آٹھ سوالات ہیں۔ اس میں سے طالب علم کو کوئی پانچ سوالوں کے جواب دینے ہیں۔ ہر سوال کا جواب تقریباً دو سو (200) لفظوں پر مشتمل ہے۔ ہر سوال کے لیے 6 نمبرات مختص ہیں۔
(5 x 6 = 30 Marks)
3. حصہ سوم میں پانچ سوالات ہیں۔ اس میں سے طالب علم کو کوئی تین سوالوں کے جواب دینے ہیں۔ ہر سوال کا جواب تقریباً پانچ سو (500) لفظوں پر مشتمل ہے۔ ہر سوال کے لیے 10 نمبرات مختص ہیں۔
(3 x 10 = 30 Marks)

حصہ اول

سوال نمبر : 1

- (i) کسی خاص مقصد کے لئے عائد کیا گیا محصول _____ کہلاتا ہے۔
- (ii) _____ محصول سے مراد ہے جس کی فوری ذمہ داری شخص پر ہی ہوتی ہے۔
- (iii) پروپینشل ٹیکس _____ حکومت عائد کرتی ہے۔
- (iv) زرعی آمدنی پر _____ حکومت محصول عائد کرتی ہے۔
- (v) وظیفہ _____ ذریعہ آمدنی کا ہی جز ہے۔

بتلائے کہ ذیل کے بیانات صحیح یا غلط۔

- (vi) لائٹری، گھوڑ دور، تاش کے کھیل وغیرہ سے حاصل ہونے والی آمدنی پر 20% محصول عائد ہوتا ہے (صحیح / غلط)
- (vii) ہندوستان کی سرحد میں ساحل سے 20 کیلومیٹر کا علاقہ بھی شامل ہے۔ (صحیح / غلط)
- (viii) رہائشی بھتہ تنخواہ کا جز نہیں ہے۔ (صحیح / غلط)
- (ix) ایک جیسی عمارت یا ویسی عمارت دوسرے علاقے میں ہو، تو ایسی عمارت کے کرایہ کو Fair Rental Value (FRV) کہتے ہیں۔ (صحیح / غلط)
- (x) قلیل مدت اراضی فروخت کرنے پر ہونے والے منافع پر 20% محصول عائد ہوتا ہے۔ (صحیح / غلط)

حصہ دوم

(2) ذیل کی تفصیلات میں سے بتلائیے کہ تنخواہ کے جز کون سے ہیں:

(ii) سفری بھتہ (Travel Allowance)	(i) یونیفارم بھتہ (Uniform Allowance)
(iv) Gratuity	(iii) سرحدی علاقہ بھتہ (Border Area Allowance)
(vi) وظیفہ (Pension)	(v) مہنگائی بھتہ (Dearness Allowance)
(viii) تنخواہ کے بقایہ جات	(vii) سوالیہ پرچہ سازی معاوضہ (Question paper Setting Fee)

(3) جناب مہیندر راؤ کی تفصیلات اس طرح ہیں:

طویل مدت سرمایہ منافع = 1,560,000/- گھوڑ دوڑ سے حاصل انعامات = 2,00,000/- روپے

دیگر ذرائع سے آمدنی = 5,60,000/- روپے

کل محصول محسوب کیجئے۔

(4) سال 2017-18 میں جناب پرویز کمار ہندوستان میں 256 دن قیام پذیر ہے۔ ان کا رہائشی موقف کیا ہوگا؟

(5) مختلف طریقوں سے ذاتی، مکانی جائیداد کو استعمال کرنے سے محصول پر کیا اثر ہوگا؟ بتلائیے۔

(6) جناب اسلم خان نے حیدرآباد میں 300 مربع میٹر پر ایک مکان تعمیر کیا اور مزید 100 مربع میٹر صحن اور باغ کے لیے کھلا چھوڑ دیا۔ اس عمارت

سے ماہانہ 30,000 روپے کرایہ دستیاب ہے، جن میں 30% صحن سے منسوب ہے۔ مکانی جائیداد سے حاصل آمدنی کتنی ہوگی۔

(7) جناب صلاح الدین نے اپنی آبائی جائیداد کو 2017-18 میں فروخت کیا، جس سے انہیں 40 لاکھ روپے منافع حاصل ہوا۔ اور ان کی دیگر

ذرائع سے آمدنی 6 لاکھ روپے ہے۔ کل محصول محسوب کیجئے۔

(8) سرمایہ و مالی اخراجات (Capital and Revenue Expenditure) کے درمیان امتیاز کیجئے۔

(9) انکم ٹیکس ایکٹ 1961 کے تحت فرسودگی سے متعلقہ اصول بتلائیے۔

حصہ سوم

(10) ذیل کی تفصیلات سے آمدنی بذریعہ کاروبار محسوب کیجئے۔

Purchases خریدی	12,00,000	Sale فروخت	20,00,000
Wages اجرت	1,50,000	Closing Stock ذخیرہ	5,00,000
Direct Expenses راست اخراجات	50,000	سرکاری تمسکات سے حاصل سود	50,000
مشکوک قرضے	60,000	Interest on Tax free Govt. securities	
Provision for doubtful debts			
کے تحت فرسودگی 2013 کمپنی ایکٹ	1,30,000		
Depreciation as per companies Act 2013			
سیاسی جماعت کے رسالہ میں اشتہار	45,000		
Advertisement in a political party souvenir			
خالص منافع	9,15,000		
Net profit			
	25,50,000		25,50,000

1,50,000/- روپے	انکم ٹیکس اصولوں کے تحت فرسودگی
45,000/- روپے	نقد خریدی
50,000/- روپے	غیر اندراج کی ہوئی فروختگی
32,000/- روپے	اجری طرف سے Provident Fund میں جمع کرنے میں تاخیر

(11) ذیل کی تفصیلات سے آمدنی بذریعہ تنخواہ محسوب کیجئے۔

Basic Pay @ Rs. 18,000 p.m	بینادی تنخواہ	216000
Cash prize	نقدی انعام	5000
Children Education Allowance Rs. 1,500 pm	بچوں کے لئے تعلیمی بھتہ	13200
D.A @ Rs. 5,600 p.m.	مہنگائی بھتہ	67200
Domestic servant provided by employer	خانگی ملازم اجری طرف سے فراہم کیا گیا	18000
Employer's contribution to R.P.F @ 14% of basic +da	اجری طرف سے R.P.F میں جمع کیا گیا	39648
House rent allowance	رہائشی بھتہ	60000
Life Insurance premium paid by the employer	زندگی بیمہ اجری طرف سے ادا کیا گیا	10000
Motor Car	موٹر کار	2400
Professional tax paid by employer	پیشہ وارانہ ٹیکس اجری طرف سے ادا کیا گیا	2400
Rent paid	اداشدہ کرایہ	8400

(12) ہندوستان میں پائے جانے والے مختلف اقسام کے محصول بہ حوالہ مرکزی، ریاستی اور علاقائی حکومتوں کے متعلق تفصیل سے لکھیے۔

(13) ہندوستان میں مختلف اقسام کے شہریوں پر عائد ہونے والے آمدنی محصول کی شرحوں کو جدول میں پیش کیجئے۔

(14) راست اور بالراست محصول کے درمیان امتیاز کیجئے۔

☆☆☆